

مشروط فروخت / کرایہ داری تا ملکیت کے رہنما اصول

اس دستاویز میں مشروط فروخت / FHV لائسنس کے تعطل کے استثنا کے ساتھ کرایہ داری تا ملکیت کے تحت، NYC TLC کے ساتھ نئی کرائے کی گاڑی کے لائسنس کی خاطر اپلائی کرنے کے لیے رہنما اصول اور درخواست کا طریقہ شامل ہیں۔ براہ کرم نوٹ کریں کہ تمام جمع کروائی گئی دستاویزات کا صاف اور واضح ہونا لازم ہے۔

جمع کروانے کے لیے رہنما اصول

درخواست گزار:

- درخواست گزار کا TLC ڈرائیور لائسنس کا حامل ہونا لازم ہے۔
- TLC کی جانب سے توثیق کے وقت TLC ڈرائیور لائسنس پر نام FHV ٹرپ ریکارڈز پر TLC لائسنس نمبر کے ساتھ مماثل ہونا لازم ہے۔
- درخواست گزار کا نام، کرایہ دار / گاڑی کے خریدار کا نام، اور TLC ڈرائیور لائسنس پر نام یکساں ہونا لازم ہے۔

کرائے کی شرائط:

- کرائے کی تاریخ کا کرائے کے معاہدے میں اندراج کیا جانا لازم ہے، اور اس کو 14 اگست 2018 کے بعد تاریخ بند نہیں کیا جا سکتا۔
- گاڑی کے شناختی نمبر (VIN) کا کرائے کے معاہدے میں واضح کیا جانا لازم ہے۔
- کرائے کے معاہدے میں VIN کا TLC کی جانب سے توثیق کے وقت FHV ٹرپ ریکارڈز میں موجود VIN سے مماثل ہونا لازم ہے۔
- گاڑی خریدنے کے لیے کرائے کے معاہدے کی شرائط کا کرائے دار کے لیے اختیار کی وضاحت کرنا لازم ہے۔
- کرائے کے معاہدے کی ميعاد دو (2) سال سے کم عرصے کے لیے نہ ہونا لازم ہے۔
- کرائے کے معاہدے کے ہر صفحے پر کرائے دار اور موجر کے نام کے ابتدائی حروف یا دستخط ہونا یا درکار ہونے پر تاریخ درج ہونا لازم ہے۔

گاڑی کی ملکیت کا ثبوت:

- درخواست گزار پر گاڑی کے ٹائٹل کے سامنے اور پیچھے کے حصے کی نقل جمع کروانا لازم ہے، جس کا کرائے کے معاہدے میں موجود کرائے پر دی گئی گاڑی سے متعلق ہونا لازم ہے۔
- اگر ٹائٹل کے پیچھے کا حصہ مکمل ہے، تو اس میں قابل اطلاق تاریخیں، اور خریدار اور فروخت کنندہ دونوں کے دستخط ہونا لازم ہیں۔
- گاڑی کے ٹائٹل پر گاڑی کے مالک کا واضح کردہ نام اس درخواست گزار کا نام ہونا لازم ہے جو فی الوقت TLC ڈرائیور لائسنس کا حامل ہے۔

کرایہ داری تا ملکیت کی درخواست کا عمل

- مرحلہ 1: درخواست گزار کا TLC کو TLC کے ڈرائیور لائسنس کی نقل، کرائے کا معاہدہ (یا کرائے کی دستاویز کا ثبوت)، گاڑی کا ٹائٹل، اور ایک مکمل کردہ نئی گاڑی کی درخواست بمع درکار دستاویزات کو TLCFHVconditional@tlc.nyc.gov پر ای میل کرنا لازم ہے۔
- مرحلہ 2: TLC جمع کردہ دستاویزات کا جائزہ لے گا اور ٹرپ کے ریکارڈز کی تحقیق کرے گا۔ تمام تقاضے درست طور پر پورے کیے جانا لازم ہے۔
- مرحلہ 3: اگر کرایہ داری تا ملکیت کے تقاضے پورے کر دیے جائیں، تو TLC درخواست گزار کے ساتھ TLC کی درخواست کی فیس جمع کروانے کے لیے ایک اپائنٹمنٹ شیڈول کرے گا۔ ادائیگی موصول ہو جانے پر، NYS DMV پلیٹ لیٹر درخواست گزار کو ای میل کر دیا جائے گا۔ "TC" برائے کرایہ پلیٹس اور رجسٹریشن وصول کرنے کی خاطر پلیٹ لیٹر / ای میل کو لے کر NYS DMV کے دفتر جائیں۔
- مرحلہ 4: آپ کے اپنے TLC پلیٹس موصول کرنے پر، پلیٹ کی اطلاع کا وہ فارم جمع کروانے کے ذریعے TLC کو مطلع کریں جو **TLCUP** پر تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اپنی گاڑی کی درخواست کے نمبر کا استعمال **TLCUP** پر سائن ان کرنے کے لیے کریں۔
- مرحلہ 5: TLC گاڑی کے معائنے کی اپائنٹمنٹ کی تاریخ کے متعلق آپ کو ای میل کرے گا، اور **TLCUP** پر پوسٹ کرے گا۔ شیڈول کردہ اپائنٹمنٹ پر اپنی گاڑی لائیں۔ آپ کی جانب سے معائنہ پاس کر لینے کے بعد، آپ کی گاڑی کا لائسنس فعال کر دیا جائے گا۔